



سوال

(285) روزے دار کا بھول کر کھانا پینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت کریں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دانستہ کھانے پینے اور تعلقات زن و شوئی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو روزہ دار بھول کر کچھ کھاپی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔“ [1] ایک روایت میں ہے کہ یہ ایسا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچایا ہے۔ [2] ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر کسی قسم کی قضا یا کفارہ نہیں ہے۔“ [3]

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر بھول کر کوئی ایسا عمل کر لیا جائے جو روزہ کو باطل کر دینے والا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی قضا یا کفارہ واجب ہوتا ہے، البتہ دانستہ ایسا کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ (واللہ اعلم)

[1] صحیح بخاری، الصوم: ۱۹۳۳۔

[2] ترمذی، الصوم: ۱۷۰۔

[3] مستدرک حاکم، ص: ۴۳۰، ج ۱۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب



جلد: 3، صفحہ نمبر: 256

محدث فتویٰ